

## Warning التحذير

(إِيَّاكَ وَالظَّنَّ) اس کو عربی میں تحذیر کہا جاتا ہے۔ اور وہ تشبیہ ہوتی ہے۔ خبردار کرنا مقصود ہوتا ہے مخاطب کو ایسے معاملہ میں جو بظاہر ناپسندیدہ ہوتا کہ وہ اس سے بچ جائے۔ "إِيَّاكَ" کے بعد والا اسم منصوب ہوتا ہے۔

These words, Wow after Iyya and an accusative noun after Wow are called in Arabic as تحذير. It is a warning. The purpose is to warn the person addressed in a matter which is apparently disliked so that he is saved from it. The noun after the waw is mansub.

تحذير (ح ذ ر) حَذَّرَ مُحَذَّرًا وَهُوَ تَحْذِيرًا (تشبیہ کرنا۔ خبردار کرنا) to warn فلم 2

إِيَّاكَ واحد مذکر کے لیے، جمع مذکر کے لیے إِيَّاكُمْ، واحد مؤنث کے لیے إِيَّاكِ۔ اور جمع مؤنث کے لیے إِيَّاكُنَّ استعمال ہوتا ہے۔

إِيَّاكُمْ وَالْتَدَخِينَ يَا إِخْوَانُ۔ اپنے آپ کو سگریٹ نوشی سے بچاؤ! اے بھائیو۔  
Save yourselves from smoking, O Brothers!

إِيَّاكُنَّ وَالشُّفُورَ يَا أَخَوَاتِي۔ اپنے آپ کو بے پردگی سے بچاؤ! اے بہنو۔  
Save yourselves from being exposed, O my sisters!

وَفِي الْحَدِيثِ: إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

ایک حدیث میں ہے 'اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ کیونکہ حسد کھا جاتا ہے نیکیوں کو جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔

It occurs in a hadeeth: Save yourself from jealousy because it swallows righteous deeds as fire swallows' dry sticks.

**خلاصہ:** تشبیہ اور خبردار کرنے کے لیے عربی میں مختلف کلمات استعمال ہوتے ہیں۔ تشبیہ کے لیے ایک انداز یہ بھی ہے۔ کہ کلمہ "إِيَّا" کے بعد حرف "واو" اور "واو" کے بعد منصوب اسم۔ عربی میں اس کو تحذیر کہتے ہیں، اور تحذیر کا مطلب ہوتا ہے سامنے والے کو کسی بڑی چیز سے خبردار کرنا، تشبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔

اس کے لئے "إِيَّا" کے بعد واو اور واو کے بعد منصوب اسم ہوتا ہے۔ اسم منصوب اس لئے ہوتا ہے کہ اس کا فعل محذوف ہوتا ہے اور یہ اس فعل کا مفعول بہ ہوتا ہے۔

Conclusion: In Arabic تحذير means to warn the person addressed of something big, the purpose is to warn. For this there is Wow after Iyya and an accusative noun after Wow. The noun is accusative because its فعل is dropped and the noun is the Mafo'ulun Bihi of the Fa'il.